

القرآن الكريم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں کے شر سے

المنزل-۷

آیاتھا - ۵۶۴ , زُكُوْ عَاتُهَا - ۳۸

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ - ۳۰

زُكُوْ عَاتُهَا-۲

سُوْرَةُ النَّبَاِ (مَكِّي)

آیاتھا-۴۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

المنزل-۷
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ①

کس چیز کی بابت وہ آپس میں سوال کرتے ہیں ①

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ②

اس بڑی خبر کے متعلق ②

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ③

جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ③

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ④

ہرگز ایسا نہیں عنقریب وہ جان لیں گے ④

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ⑤

پھر ہرگز ایسا نہیں عنقریب وہ جان لیں گے ⑤

الْمَنْ نَجَعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ⑥

کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا ⑥

وَالْجِبَالِ أَوْتَادًا^ص ⑦

اور پہاڑوں کو میخیں ⑦

وَوَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا^ل ⑧

اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا ⑧

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا^ل ⑨

اور تمہاری نیند کو راحت کا باعث بنایا ⑨

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا^ل ⑩

اور رات کو پردہ پوش بنایا ⑩

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا^ص ⑪

اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا ⑪

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا^ل ⑫

اور ہم نے تمہارے اوپر سات سخت (آسمان) بنائے ⑫

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا^ص ⑬

اور ایک جگمگاتا ہوا چراغ بنایا ⑬

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا^ل ⑭

اور ہم نے بادلوں سے زور کا پانی اتارا ⑭

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا^ل ⑮

تاکہ ہم اس سے اناج اور گھاس اگائیں ⑮

وَجَنَّتِ الْفَاآُطُ ⑯

اور گھنے باغ اگائیں ⑯

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ⑰

بے شک فیصلہ کا دن معین ہو چکا ہے ⑰

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ⑱

جس دن صور میں پھونکا جائے گا پھر تم گروہ درگروہ چلے آؤ گے ⑱

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ⑲

اور آسمان کھولا جائے گا تو (اس میں) دروازے ہوجائیں گے ⑲

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ⑳

اور پہاڑ اڑائے جائیں گے تو ریت ہو جائیں گے ⑳

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ㉑

بے شک دوزخ گھات میں لگی ہے ㉑

لِللَّطِغِينَ مَابًا ㉒

سرشکوں کے لیے ٹھکانہ ہے ㉒

لِلثِّينِ فِيهَا أَحْقَابًا ㉓

کہ وہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے ②③

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ②④

نہ وہاں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا ②④

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ②⑤

مگر گرم پانی اور بہتی پیپ ②⑤

جَزَاءً وَفَاءً ②⑥

پورا پورا بدلہ ملے گا ②⑥

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ②⑦

بے شک وہ حساب کی امید نہ رکھتے تھے ②⑦

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ②⑧

اور ہماری آیتوں کو بہت جھٹلایا کرتے تھے ②⑧

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ②⑨

اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں شمار کر رکھا ہے ②⑨

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ③⑩

اے پس چکھو سو ہم تمہارے لیے عذاب ہی زیادہ کرتے رہیں گے ③⑩

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ③①

بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے ﴿۳۱﴾

حَدَّٰیْقٍ وَّ اَعْنَابًا ﴿۳۲﴾

باغ اور انگور ﴿۳۲﴾

وَّ كَوَاعِبَ اٰثْرَابًا ﴿۳۳﴾

اور نوجوان ہم عمر عورتیں ﴿۳۳﴾

وَّ كَاسًا دِهَاقًا ﴿۳۴﴾

اور پیالے چھلکتے ہوئے ﴿۳۴﴾

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَعْوًا وَّ لَا كِذْبًا ﴿۳۵﴾

نہ وہاں بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹ ﴿۳۵﴾

جَزَاءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿۳۶﴾

آپ کے رب کی طرف سے حسب اعمال بدلہ عطا ہوگا ﴿۳۶﴾

رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿۳۷﴾

جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ﴿۳۷﴾
بڑا مہربان کہ وہ اس سے بات نہیں کر سکیں گے

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَاَلْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ﴿۳۸﴾ لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنۢ اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَاَقَالَ

صَوَابًا ﴿۳۸﴾

﴿۳۸﴾ جس دن جبرائیل اور سب فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے کوئی ﴿۳۸﴾
نہیں بولے گا مگر وہ جس کو رحمن اجازت دے گا اور وہ بات ٹھیک

کہے گا

ذَلِكَ الْيَوْمِ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا ﴿٣٩﴾

یہ یقینی دن ہے پس جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانا بنا لے ﴿٣٩﴾

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۗ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ
يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۗ ﴿٤٠﴾

بے شک ہم نے تمہیں ایک عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے ﴿٤٠﴾
جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا اور
کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا



وَالنَّزِغَاتِ غُرُقًا ۙ ﴿١﴾

جورڑوں میں گھس کر نکالنے والوں کی قسم ہے ﴿١﴾

وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا ۙ ﴿٢﴾

اور بند کھولنے والوں کی ﴿٢﴾

وَالسَّبِغَاتِ سَبْحًا ۙ ﴿٣﴾

اور تیزی سے تیرنے والوں کی ﴿٣﴾

فَالسَّبِقَاتِ سَبْقًا ۙ ﴿٤﴾

پھر دوڑ کر آگے بڑھ جانے والوں کی ﴿٤﴾

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ⑤

پھر ہر امر کی تدبیر کرنے والوں کی ⑤

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ⑥

جس دن کانپنے والی کانپے گی ⑥

تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ⑦

اس کے پیچھے آنے والی پیچھے آئے گی ⑦

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ⑧

کئی دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے ⑧

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ⑨

ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ⑨

يَقُولُونَ عَرَانَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ⑩

وہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے ⑩

عَازًا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ⑪

کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے ⑪

قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ⑫

کہتے ہیں کہ یہ تو اس وقت خسارہ کا لوٹنا ہوگا ⑫

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ⑬

پھر وہ واقعہ صرف ایک ہی بیبت ناک آواز ہے ⑬

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ⑭

پس وہ اسی وقت میدان میں آ موجود ہوں گے ⑭

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ⑮

کیا آپ کو موسیٰ کا حال معلوم ہوا ہے ⑮

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ⑯

جب کہ مقدس وادی طوی میں اس کے رب نے اسے پکارا ⑯

إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ⑰

فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے ⑰

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّىٰ ⑱

پس کہو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو ⑱

وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ⑲

اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں کہ تو ڈرے ⑲

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ⑳

پس اس نے اس کو بڑی نشانی دکھائی ⑳

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ㉑

تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی ㉑

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ۝٢٢

پھر کوشش کرتا ہوا واپس لوٹا ۝٢٢

فَحَشَرَ فَنَادَى ۝٢٣

پھر اس نے سب کو جمع کیا پھر پکارا ۝٢٣

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ۝٢٤

پھر کہا کہ میں تمہارا سب سے برتر رب ہوں ۝٢٤

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخْرَةِ وَالْأُولَى ۝٢٥

پھر اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا ۝٢٥

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَى ۝٢٦

سے بے شک اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے ۝٢٦

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۝٢٧

کیا تمہارا بنانا بڑی بات ہے یا آسمان کا جس کو ہم نے بنایا ہے ۝٢٧

رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيَهَا ۝٢٨

اسکی چھت بلند کی پھر اس کو سنوارا ۝٢٨

وَ أَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۝٢٩

اور اس کی رات اندھیری کی اور اس کے دن کو ظاہر کیا ۝٢٩

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۝٣٠

اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا ③۰

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعُهَا ③۱

اس سے اس کا پانی اور اس کا چارا نکالا ③۱

وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا ③۲

اور پہاڑوں کو خوب جما دیا ③۲

مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ③۳

تمہارے لیے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے سامان حیات ہے ③۳

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ③۴

پس جب وہ بڑا حادثہ آئے گا ③۴

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ③۵

جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا ③۵

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ③۶

اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ سامنے لائی جائے گی ③۶

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ③۷

سو جس نے سرکشی کی ③۷

وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ③۸

اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ③۸

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ ③٩

سو بے شک اس کا ٹھکانا دوزخ ہی ہے ③٩

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ ④٠

اور لیکن جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس ④٠
نے اپنے نفس کو بری خواہش سے روکا

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ ④١

سو بے شک اس کا ٹھکانا بہشت ہی ہے ④١

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ ④٢

آپ سے قیامت کی بابت پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا ④٢

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۖ ④٣

آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ ④٣

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۖ ④٤

اس کے علم کی انتہا آپ کے رب ہی کی طرف ہے ④٤

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَّخْشَاهَا ۖ ④٥

بے شک آپ تو صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے ④٥

كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۖ ④٦

جس دن اسے دیکھ لیں گے (تو یہی سمجھیں گے کہ دنیا میں) گویا ﴿۴۶﴾
۴۶ ہم ایک شام یا اس کی صبح تک ٹھیرے تھے

اِيٰثٰهَا- ۴۲

سُوْرَةُ عَبَسَ (مَكِّي)

رُكُوْعَاتُهَا- ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿۱﴾

پیغمبر چین بجیں ہوئے اور منہ موڑ لیا ﴿۱﴾

اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ﴿۲﴾

کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا ﴿۲﴾

وَمَا يُدْرِیْكَ لَعَلَّهٗ یَزْكٰی ﴿۳﴾

اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ پاک ہو جائے ﴿۳﴾

اَوْ یَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰی ﴿۴﴾

یا وہ نصیحت پکڑ لے تو اس کو نصیحت نفع دے ﴿۴﴾

اَمَّا مَنْ اَسْتَعْنٰی ﴿۵﴾

لیکن وہ جو پروا نہیں کرتا ﴿۵﴾

فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدِّیْ ﴿۶﴾

سو آپ کے لیے توجہ کرتے ہیں ﴿۶﴾

وَمَا عَلَیْكَ اِلَّا یَزْكٰی ﴿۷﴾

حالانکہ آپ پر اس کے نہ سدھرنے کا کوئی الزام نہیں ﴿۷﴾

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى^٨

اور لیکن جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا^⑧

وَهُوَ يَخْشَى^٩

اور وہ ڈر رہا ہے^⑨

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى^{١٠}

تو آپ اس سے بے پروائی کرتے ہیں^⑩

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ^{١١}

ایسا نہیں چاہیئے بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے^⑪

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ^{١٢}

پس جو چاہے اس کو یاد کرے^⑫

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ^{١٣}

وہ عزت والے صحیفوں میں ہے^⑬

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ^{١٤}

جو بلند مرتبہ اور پاک ہیں^⑭

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ^{١٥}

ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں^⑮

كِرَامٍ بَرَرَةٍ^{١٦}

جو بڑے بزرگ نیکو کار ہیں ﴿۱۶﴾

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ ﴿۱۷﴾

انسان پر خدا کی مار وہ کیسا ناشکرا ہے ﴿۱۷﴾

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿۱۸﴾

اس نے کس چیز سے اس کو بنایا ﴿۱۸﴾

مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿۱۹﴾

ایک بوند سے اس کو بنایا پھر اس کا اندزہ ٹھیرایا ﴿۱۹﴾

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿۲۰﴾

پھر اس پر راستہ آسان کر دیا ﴿۲۰﴾

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿۲۱﴾

پھر اس کو موت دی پھر اس کو قبر میں رکھوایا ﴿۲۱﴾

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴿۲۲﴾

پھر جب چاہے گا اٹھا کر کھڑا کرے گا ﴿۲۲﴾

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿۲۳﴾

ایسا نہیں چاہیئے اس نے تعمیل نہیں کی جو اس کو حکم دیا تھا ﴿۲۳﴾

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿۲۴﴾

پس انسان کو اپنے کھانے کی طرف غور کرنا چاہیئے ﴿۲۴﴾

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۞²⁵

کہ ہم نے اوپر سے مینہ برسایا ۞²⁵

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۞²⁶

پھر ہم نے زمین کو چیر کر پھاڑا ۞²⁶

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۞²⁷

پھر ہم نے اس میں اناج اگایا ۞²⁷

وَأَعْنَبًا وَوَقْصًا ۞²⁸

اور انگور اور ترکاریاں ۞²⁸

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۞²⁹

اور زیتون اور کھجور ۞²⁹

وَحَدَآئِقَ عُلبًا ۞³⁰

اور گھنے باغ ۞³⁰

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۞³¹

اور میوے اور گھاس ۞³¹

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۞³²

تمہارے لیے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے سامان حیات ۞³²

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّآخَةُ ۞³³

پھر جس وقت کانوں کا بہرا کرنے والا شور برپا ہوگا ③

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ③

جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا ④

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ⑤

اور اپنی ماں اور باپ سے ⑤

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ⑥

اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے ⑥

لِكُلِّ امْرِيٍّ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ⑦

ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو اوروں کی طرف سے بے پروا کر دے گی ⑦

وَجُودٌ يُّومِئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ⑧

اور کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے ⑧

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ⑨

ہنستے ہوئے خوش و خرم ⑨

وَوُجُودٌ يُّومِئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ⑩

اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی ⑩

تَرَهَقُهَا قَتَرَةٌ ⑪

ان پر سیاہی چھا رہی ہو گی ④

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجْرَةُ ④

ع یہی لوگ ہیں منکر نافرمان ④

آیۃھا- ۲۹

سُوْرَةُ التَّكْوِيْنِ (مکی)

رُكُوْعَاتُهَا- ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ①

جب سورج کی روشنی لپیٹی جائے ①

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ②

اور جب ستارے گر جائیں ②

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ③

اور جب پہاڑ چلائے جائیں ③

وَإِذَا الْعِشَاءُ عُطِّلَتْ ④

اور جب دس مہینے کی گاہن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں ④

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ⑤

اور جب جنگلی جانور اکھٹے ہو جائیں ⑤

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ⑥

اور جب سمندر جوش دیئے جائیں ⑥

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ^{لاص} ⑦

اور جب جانیں جسموں سے ملائی جائیں ⑦

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ^{لاص} ⑧

اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے ⑧

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ^ع ⑨

کہ کس گناہ پر ماری گئی تھی ⑨

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ^{لاص} ⑩

اور جب اعمال نامے کھل جائیں ⑩

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ^{لاص} ⑪

اور آسمان کا پوست اتارا جائے ⑪

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ^{لاص} ⑫

اور جب دوزخ دھکائی جائے ⑫

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ^{لاص} ⑬

اور جب جنت قریب لائی جائے ⑬

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ^ط ⑭

تو ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے ⑭

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ^{لا} ⑮

پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ⑮

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ⑯

سیدھے چلنے والے غیب ہو جانے والے ستاروں کی ⑰

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ⑰

اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے ⑰

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ⑱

اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے ⑱

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ⑲

بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کا لایا ہوا ہے ⑲

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ⑳

جو بڑا طاقتور ہے عرش کے مالک کے نزدیک بڑے رتبہ والا ہے ⑳

مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ㉑

وہاں کا سردار امانت دار ہے ㉑

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ㉒

اور تمہارا رفیق کوئی دیوانہ نہیں ہے ㉒

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ㉓

اور اس نے اس کو کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے ㉓

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۚ ﴿٢٤﴾

اور وہ غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہے ﴿٢٤﴾

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۚ ﴿٢٥﴾

اور وہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے ﴿٢٥﴾

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۚ ﴿٢٦﴾

پس تم کہاں چلے جا رہے ہو ﴿٢٦﴾

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۚ ﴿٢٧﴾

یہ تو جہان بھر کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے ﴿٢٧﴾

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۚ ﴿٢٨﴾

اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے ﴿٢٨﴾

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۚ ﴿٢٩﴾

اور تم تو جب ہی چاہو گے کہ جب اللہ چاہے گا جو تمام جہان کا رب ﴿٢٩﴾

۶۷ ہے

آيَاتُهَا- ١٩

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ (مَكِّي)

رُكُوعُ عَاقِبَتِهَا- ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۙ ﴿١﴾

جب آسمان پھٹ جائے ﴿١﴾

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ ۙ ﴿٢﴾

اور جب ستارے جھڑ جائیں ②

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ③

اور جب سمندر ابل پڑیں ③

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ④

اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں ④

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ⑤

تب ہر شخص جان لے گا کہ کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ آیا ⑤

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ⑥

اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے مغرور کر دیا ⑥

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ⑦

جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک کیا پھر تجھے برابر کیا ⑦

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ⑧

جس صورت میں چاہا تیرے اعضا کو جوڑ دیا ⑧

كَلَّا بَلْ تُكذِّبُونَ بِالذِّينِ ⑨

نہیں نہیں بلکہ تم جزا کو نہیں مانتے ⑨

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ^ل ⑩

اور بے شک تم پر محافظ ہیں ⑩

كَرَامًا كَاتِبِينَ^ل ⑪

عزت والے اعمال لکھنے والے ⑪

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ⑫

وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو ⑫

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ^ع ⑬

بے شک نیک لوگ نعمت میں ہوں گے ⑬

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ^ع ⑭

اور بے شک نافرمان دوزخ میں ہوں گے ⑭

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ⑮

انصاف کے دن اس میں داخل ہوں گے ⑮

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ^ط ⑯

اور وہ اس سے کہیں جانے نہ پائیں گے ⑯

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ^ل ⑰

اور تجھے کیا معلوم انصاف کا دن کیا ہے ⑰

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ^ط ⑱

پھر تجھے کیا خبر کہ انصاف کا دن کیا ہے ⑱

أَبَعٌ ٤٤ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ٤٥

جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا اور اس دن اللہ ⑲
ع ہی کا حکم ہوگا

رُكُوْعَاتُهَا-١	سُوْرَةُ الْمَطْفِيْنِ (مَكِّي)	آيَاتُهَا-٣٦
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	
	شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے	

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ ①

① کم تولنے والوں کے لیے تباہی ہے

الَّذِيْنَ اِذَا كُتِلُوْا عَلٰى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۙ ②

② وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ماپ کر لیں تو پورا کریں

وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۙ ③

③ اور جب ان کو ماپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْتُوْنَ ۙ ④

④ کیا وہ خیال نہیں کرتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے

لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۙ ⑤

⑤ اس بڑے دن کے لیے

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ ⑥

⑥ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِّينٍ ۝٧

ہر گز ایسا نہیں چاہیے بے شک نافرمانوں کے اعمال نامے سجین ۝⁷
میں ہیں

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ۝٨

اور آپ کو کیا خبر کہ سجین کیا ہے ۝⁸

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۝٩

ایک دفتر ہے جس میں لکھا جاتا ہے ۝⁹

وَيَلُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝١٠

اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے ۝¹⁰

الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝١١

وہ جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں ۝¹¹

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝١٢

اور اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھا ہوا گناہگار ہے ۝¹²

إِذَا تَنَالَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝١٣

جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ۝¹³
ہیں

كَلَّا بَلْ سَكَنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝١٤

ہر گز نہیں بلکہ ان کے (بڑے) کاموں سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ^ط ⑮

ہر گز نہیں بے شک وہ اپنے رب سے اس دن روک دیئے جائیں گے

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ^ط ⑯

پھر بے شک وہ دوزخ میں گرنے والے ہیں

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ^ط ⑰

پھر کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے تھے

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيِّنَ^ط ⑱

ہر گز نہیں بے شک نیکوں کے اعمال نامے علیین میں ہیں

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيْنَا^ط ⑲

اور آپ کو کیا خبر کہ علیین کیا ہے

كِتَابٍ مَّرْقُومٍ^ط ⑳

ایک دفتر ہے جس میں لکھا جاتا ہے

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ^ط ㉑

اسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ^ل ②②

بے شک نیکو کار جنت میں ہوں گے ②②

عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ^ل ②③

تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے ②③

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ^ع ②④

آپ ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی معلوم کریں گے ②④

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ^ل ②⑤

ان کو خالص شراب مہر لگی ہوئی پلائی جائے گی ②⑤

خِتْمُهُ مِسْكَ^ط وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ②⑥

اس کی مہر مشک کی ہو گی اور رغبت کرنے والوں کو اس کی
رغبت کرنی چاہیے

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ^ل ②⑦

اور اس میں تسنیم ملی ہو گی ②⑦

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ^ط ②⑧

وہ ایک چشمہ ہے اس میں سے مقرب پئیں گے ②⑧

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ^ط ②⑨

بے شک نافرمان (دنیا میں) ایمان داروں سے ہنسی کیا کرتے تھے ②⑨

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ^{ز ص ٣٠}

اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھ سے اشارے کرتے تھے

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ^{ز ص ٣١}

اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تو ہنستے ہوئے جاتے تھے

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ^{٣٢}

اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے بے شک یہی گمراہ ہیں

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ^{٣٣}

حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ^{٣٤}

پس آج وہ لوگ جو ایمان لائے کفار سے ہنس رہے ہوں گے

عَلَىٰ الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ^{٣٥}

تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے

ع^٤ هَلْ تُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ^{٣٦}

ع^٨ آیا کافروں کو بدلہ دیا گیا ہے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ^ل ①

جب آسمان پھٹ جائے گا ①

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ^ل ②

اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے ②

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ^ط ③

اور جب زمین پھیلا دی جائے گی ③

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ^ل ④

اور جو کچھ اس میں ہے ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی ④

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ^ط ⑤

اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے ⑤

يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَارِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ^ع ⑥

اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں کوشش کر رہا ⑥
ہے پھر اس سے جا ملے گا

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ^ل ⑦

پھر جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ⑦

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا^ل ⑧

تو اس سے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا ⑧

وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ⑨

اور وہ اپنے اہل و عیال میں خوش واپس آئے گا ⑨

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ⑩

اور لیکن جس کو نامہ اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا گیا ⑩

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ⑪

تو وہ موت کو پکارے گا ⑪

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ⑫

اور دوزخ میں داخل ہوگا ⑫

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ⑬

بے شک وہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم تھا ⑬

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَّحُورَ ⑭

بے شک اس نے سمجھ لیا تھا کہ ہر گز نہ لوٹ کر جائے گا ⑭

بَلَىٰ ۗ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ⑮

کیوں نہیں بے شک اس کا رب تو اس کو دیکھ رہا تھا ⑮

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ⑯

پس شام کی سرخی کی قسم ہے ⑯

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ⑰

اور رات کی اور جو کچھ اس نے سمیٹا ⑰

وَالْقَمَرَ إِذَا اتَّسَقَ ⑱

اور چاند کی جب کہ وہ پورا ہو جائے ⑱

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ⑲

کہ تمہیں ایک منزل سے دوسری منزل پر چڑھنا ہوگا ⑲

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑳

پھر انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے ⑳

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ㉑

اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے ㉑

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكْذِبُونَ ㉒

بلکہ جو لوگ منکر ہیں جھٹلاتے ہیں ㉒

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ㉓

اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو (دل میں) محفوظ رکھتے ہیں ㉓

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ㉔

پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو ㉔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ㉕

مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ②۵
وَعَبَّے انتہا اجر ہے

رُكُوْعَاتُهَا-۱	سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ (مَكِّي)	اِيَاتُهَا-۲۲
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ		
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے		

وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ①

آسمان کی قسم ہے جس میں برج ہیں ①

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ②

اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے ②

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ③

اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس کی جس کے پاس حاضر ③
ہوتے ہیں

قَتِلَ اصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ ④

خندقوں والے ہلاک ہوئے ④

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ⑤

جس میں آگ تھی بہت ایندھن والی ⑤

اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ⑥

جب کہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے ⑥

وَهُمْ عَلٰی مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُُوْدٌ ⑦

اور وہ ایمانداروں سے جو کچھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے ⑦

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑧

اور ان سے اسی کا توبدلہ لے رہے تھے کہ وہ اللہ زبردست خوبیوں ⑧
والے پر ایمان لائے تھے

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ⑨

وہ کہ جس کے قبضہ میں آسمان اور زمین ہیں اور اللہ ہر چیز پر شاہد ⑨
ہے

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ
عَذَابُ الْحَرِيقِ ⑩

بے شک جنہوں نے ایمان دار مردوں اور ایمان دار عورتوں کو ستایا ⑩
پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے
جلانے والا عذاب ہے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ⑪
الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ⑪

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کیے ان ⑪
کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہی بڑی کامیابی
ہے

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ⑫

بے شک تیرے رب کی پکڑ بھی سخت ہے ⑫

إِنَّهُ هُوَ يُبَدِّئُ وَيُعِيدُ ⑬

بے شک وہی پہلے پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پیدا کرے گا ⑬

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ⑭

اور وہی ہے بخشنے والا محبت کرنے والا ⑭

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ⑮

عرش کا مالک بڑی شان والا ⑮

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ⑯

جو چاہے کرنے والا ⑯

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ⑰

کیا آپ کے پاس لشکروں کا حال پہنچا ⑰

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ⑱

فرعون اور ثمود کے ⑱

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ⑲

بلکہ منکر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں ⑲

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ⑳

اور اللہ ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہے ⑳

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ^{٢١}

بلکہ وہ قرآن ہے بڑی شان والا^{٢١}

ع۱۰۰ فِی لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ^{٢٢}

۱۰۰۔ لوح محفوظ میں (لکھا ہوا ہے)^{٢٢}

زُكُو عَاتِهَا-۱	سُوْرَةُ الطَّارِقِ (مکی)	آیَاتُهَا-۱۷
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	
	شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے	

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ^١

آسمان کی قسم ہے اور رات کو آنے والے کی^١

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ^٢

اور آپ کو کیا معلوم رات کو آنے والا کیا ہے^٢

النَّجْمِ الثَّاقِبِ^٣

وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے^٣

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ^٤

ایسی کوئی بھی جان نہیں کہ جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو^٤

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ^٥

پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے^٥

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ^٦

ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے^٦

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۗ

جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۗ

بے شک وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۗ

جس دن بھید ظاہر کیے جائیں گے

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۗ

تو اس کے لیے نہ کوئی طاقت ہو گی اور نہ کوئی مددگار

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۗ

آسمان اور بارش والے کی قسم ہے

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۗ

اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۗ

بے شک قرآن قطعی بات ہے

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۗ

اور وہ ہنسی کی بات نہیں ہے

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝^{١٥}

بے شک وہ ایک تدبیر کر رہے ہیں ۝^{١٥}

وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝^{١٦}

اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں ۝^{١٦}

فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ مَرْوِيدًا ۝^{١٧}

۱۱ ع پس کافروں کو تھوڑے دنوں کی مہلت دے دو ۝^{١٧}

آيَاتُهَا- ١٩

سُورَةُ الْأَعْلَى (مكي)

رُكُوعَاتُهَا- ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝^١

اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کر جو سب سے اعلیٰ ہے ۝^١

الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى ۝^٢

وہ جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا ۝^٢

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝^٣

اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر راہ دکھائی ۝^٣

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝^٤

اور وہ جس نے چارہ نکالا ۝^٤

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ۝^٥

پھر اس کو خشک چورا سیاہ کر دیا ۝^٥

سُنْقَرُكَ فَلَا تُنْسَى^٦

البتہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے ⑥

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى^٧

مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ ہر ظاہر اور چھپی بات کو جانتا ہے ⑦

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى^٨

اور ہم آپ کو آسان شریعت کے سمجھنے کی توفیق دیں گے ⑧

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى^٩

پس آپ نصیحت کیجیئے اگر نصیحت فائدہ دے ⑨

سَيَذَكِّرْكَ مَنْ يُخَشَى^{١٠}

جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ جلدی سمجھ جائے گا ⑩

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى^{١١}

اور اس سے بڑا بدنصیب الگ رہے گا ⑪

الَّذِي يَصِلَى النَّارَ الْكُبْرَى^{١٢}

جو سخت آگ میں داخل ہوگا ⑫

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى^{١٣}

پھر اس میں نہ تو مرے گا اور نہ جیئے گا ⑬

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ⑭

بے شک وہ کامیاب ہوا جو پاک ہو گیا ⑭

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ⑮

اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی ⑮

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ⑯

بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو ⑯

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ⑰

حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ پائدار ہے ⑰

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ⑱

بے شک یہی پہلے صحیفوں میں ہے ⑱

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ⑲

۱۲ع یعنی) ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں) ⑲

آیۃھا-۲۶

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ (مکی)

زُكُو عَاتِهَا-۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ①

کیا آپ کے پاس سب پرچھا جانے والی (قیامت) کا حال پہنچا ①

وَجُوهٌ يُّومِئِدٍ خَاشِعَةً ②

کئی چہروں پر اس دن ذلت برس رہی ہوگی ②

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝^۳

محنت کرنے والے تھکنے والے ۝^۳

تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً ۝^۴

دھکتی ہوئی آگ میں کریں گے ۝^۴

تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ أَنِيَّةٍ ۝^۵

انہیں ابلتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا ۝^۵

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝^۶

ان کے لیے کوئی کھانا سوائے کانٹے دار جھاڑی کے نہ ہوگا ۝^۶

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝^۷

جو نہ فربہ کرتی ہے اور نہ بھوک کودور کرتی ہے ۝^۷

وَجُودُهُ يُؤَمِّدُنَا عِمَّةً ۝^۸

کئی منہ اس دن ہشاش بشاش ہوں گے ۝^۸

لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝^۹

اپنی کوشش سے خوش ہوں گے ۝^۹

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝^{۱۰}

اونچے باغ میں ہوں گے ۝^{۱۰}

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةً ۝^ط ۱۱

وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے ۱۱

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝^ق ۱۲

وہاں ایک چشمہ جاری ہوگا ۱۲

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝^ل ۱۳

وہاں اونچے اونچے تخت ہوں گے ۱۳

وَأَكْوَابُ مَوْضُوعَةٌ ۝^ل ۱۴

اور آبخورے سامنے چنے ہوئے ۱۴

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝^ل ۱۵

اور گاؤ تکیے قطار سے لگے ہوئے ۱۵

وَزَرَائِبٌ مَّبْتُوثَةٌ ۝^ط ۱۶

اور مخملی فرش بچھے ہوئے ۱۶

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝^{وقفہ} ۱۷

پھر کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں ۱۷

وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝^{وقفہ} ۱۸

اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیے گئے ہیں ۱۸

وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝^{وقفہ} ۱۹

اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے کھڑے کیے گئے ہیں ⑲

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ⑳ ^{وقفہ}

اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی ہے ㉑

فَذَكِّرْ ㉑ ^{طقف} إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ㉑ ^ط

پس آپ نصیحت کیجئے بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں ㉑

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ㉒

آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں ㉒

إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ㉓

مگر جس نے منہ موڑا اور انکار کیا ㉓

فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ㉔ ^ط

سو اسے اللہ بہت بڑا عذاب دے گا ㉔

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ㉕

بے شک ہماری طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے ㉕

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ㉖ ^ع

پھر ہماری ذمہ ان کا حساب لینا ہے ㉖ ^{الصف ۱۳ع}

وَالْفَجْرِ^١

① فجر کی قسم ہے

وَلَيَالٍ عَشْرٍ^٢

② اور دس راتوں کی

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ^٣

③ اور جفت اور طاق کی

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرٌ^٤

④ اور رات کی جب وہ گزر جائے

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ^٥

⑤ ان چیزوں کی قسم عقلمندوں کے واسطے معتبر ہے

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ^٦

⑥ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا

إِرمَ ذَاتِ الْعِمَادِ^٧

⑦ جو نسل ارم سے ستونوں والے تھے

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ^٨

⑧ کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا

وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ^{لاص} ⑨

اور تمود کے ساتھ جنہوں نے پتھروں کو وادی میں تراشا تھا ⑨

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ^{لاص} ⑩

اور فرعون میخوں والوں کے ساتھ ⑩

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ^{لاص} ⑪

ان سب نے ملک میں سرکشی کی ⑪

فَاكْتَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ^{لاص} ⑫

پھر انہوں نے بہت فساد پھیلا یا ⑫

فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ^{لاص} ⑬

پھر ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا پھینکا ⑬

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ^ط ⑭

بے شک آپ کا رب تاک میں ہے ⑭

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ^ه ⑮ فَيَقُولُ رَبِّيَ أَكْرَمَنِ^ط

لیکن انسان تو ایسا ہے کہ جب اسے اس کا رب آزما تا ہے پھر اسے ⑮ عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ^{لاص} فَيَقُولُ رَبِّيَ أَهَانَنِ^ج ⑯

لیکن جب اسے آزماتا ہے پھر اس پر اس کی روزی تنگ کر تا ہے تو ﴿۱۶﴾
کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿۱۷﴾

ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ﴿۱۷﴾

وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿۱۸﴾

اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو ﴿۱۸﴾

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿۱۹﴾

اور میت کا ترکہ سب سمیٹ کر کھا جاتے ہو ﴿۱۹﴾

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿۲۰﴾

اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو ﴿۲۰﴾

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿۲۱﴾

ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی ﴿۲۱﴾

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿۲۲﴾

اور آپ کے رب کا (تخت) آجائے گا اور فرشتے بھی صف بستہ ﴿۲۲﴾
چلے آئیں گے

وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ يَوْمِئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿۲۳﴾

اور اس دن دوزخ لائی جائے گی اس دن انسان سمجھے گا اور اس ﴿۲۳﴾
وقت اس کو سمجھنا کیا فائدہ دے گا

يَقُولُ يَلِيَّتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي^{٢٤}

کہے گا اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتا^{٢٤}

فِيَوْمٍ مَّيِّدٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ^{٢٥}

پس اس دن اس کا ساعذاب کوئی بھی نہ دے گا^{٢٥}

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ^{٢٦}

اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا ہو گا^{٢٦}

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ^{٢٧}

ارشاد ہوگا) اے اطمینان والی روح^{٢٧}

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً^{٢٨}

اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی^{٢٨}

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي^{٢٩}

پس میرے بندوں میں شامل ہو^{٢٩}

وَادْخُلِي جَنَّتِي^{٣٠}

اور میری جنت میں داخل ہو^{٣٠}

اس شہر کی قسم ہے ①

وَأَنْتَ جِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ ②

حالانکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں ②

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٌ ③

اور باپ کی اور اس کی اولاد کی قسم ہے ③

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ④

کہ بے شک ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا ہے ④

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ⑤

کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی بھی ہرگز قابو نہ پاسکے گا ⑤

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ⑥

کہتا ہے کہ میں نے مال برباد کر ڈالا ⑥

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَءَهُ أَحَدٌ ⑦

کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا ⑦

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ⑧

کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں ⑧

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ⑨

اور زبان اور دو ہونٹ ⑨

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ⑩

اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھائے ⑩

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ⑪

پس وہ (دین کی) گھاٹی میں سے نہ ہو کر نکلا ⑪

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ⑫

اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے ⑫

فَكَرَّ رَاقِبَةً ⑬

گردن کا چھوڑانا ⑬

أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ⑭

یا بھوک کے دن میں کھلانا ⑭

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ⑮

کسی رشتہ دار یتیم کو ⑮

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ⑯

یا کسی خاک نشین مسکین کو ⑯

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ⑰

پھر وہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو ⑰

صبر کی وصیت کی اور رحم کرنے کی وصیت کی

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ ﴿١٨﴾

یہی لوگ دائیں والے ہیں ﴿١٨﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۖ ﴿١٩﴾

اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا وہی بائیں والے ہیں ﴿١٩﴾

عَالَمٌ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۖ ﴿٢٠﴾

۱۵ انہیں پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ ہے ﴿٢٠﴾

رُكُوعَاتُهَا-۱	سُورَةُ الشَّمْسِ (مَكِّي)	آيَاتُهَا-۱۵
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	
	شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے	

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۖ ﴿١﴾

سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم ہے ﴿١﴾

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۖ ﴿٢﴾

اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے ﴿٢﴾

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۖ ﴿٣﴾

اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے ﴿٣﴾

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۖ ﴿٤﴾

اور رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے ﴿٤﴾

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۖ ﴿٥﴾

اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا ﴿٥﴾

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا^{صلا} ⑥

اور زمین اور اس کی جس نے اس کو بچھایا ⑥

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا^{صلا} ⑦

اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا ⑦

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا^{صلا} ⑧

پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی ⑧

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا^{صلا} ⑨

بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا ⑨

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا^ط ⑩

اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا ⑩

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا^{صلا} ⑪

ثمود نے اپنی سرکشی سے (صالح کو) جھٹلایا تھا ⑪

إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا^{صلا} ⑫

جب کہ ان کا بڑا بدبخت اٹھا ⑫

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا^ط ⑬

پس ان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی ⑬
پینے کی باری سے بچو

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا^٥ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا^{١٤}

پس انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں پھر ان ⑭
پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے بدلے ہلاکت نازل کی پھر ان کو
برابر کر دیا

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا^ع ⑮

۱۲ع اور اس نے اس کے انجام کی پروا نہ کی ⑮

رُكُو عَاتِهَا- ۱	سُوْرَةُ اللَّيْلِ (مَكِّي)	اِيَاتِهَا- ۲۱
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	
	شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے	

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى^١

رات کی قسم ہے جب کہ وہ چھاجائے ①

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى^٢

اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو ②

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى^٣

اور اس کی قسم کہ جس نے نر و مادہ کو بنایا ③

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى^٤

بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے ④

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ⑤

پھر جس نے دیا اور پرہیز گاری کی ⑤

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ⑥

اور نیک بات کی تصدیق کی ⑥

فَسُنِّيَسِرُهُ لِّلْیَسْرَىٰ ⑦

تو ہم اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیں گے ⑦

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ⑧

اور لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا ⑧

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ⑨

اور نیک بات کو جھٹلایا ⑨

فَسُنِّيَسِرُهُ لِّلْعُسْرَىٰ ⑩

تو ہم اس کے لیے جہنم کی راہیں آسان کر دیں گے ⑩

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ⑪

اور اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا جب کہ وہ گھڑے میں ⑪

گرے گا

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ⑫

بے شک ہمارے ذمے راہ دکھانا ہے ⑫

وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى ⑬

اور بے شک ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت بھی اور دنیا بھی ہے ⑬

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ⑭

پس میں نے تمہیں بڑھکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے ⑭

لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ⑮

جس میں صرف وہی بد بخت داخل ہوگا ⑮

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ⑯

جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا ⑯

وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَى ⑰

اور اس آگ سے وہ بڑا پرہیز گار دور رہے گا ⑰

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ⑱

جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے ⑱

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ⑲

اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے ⑲

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ⑳

وہ تو صرف اپنے سب سے برتر رب کی رضا مندی کے لیے دیتا ہے ⑳

ع۱۴ اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا ②۱

وَالضُّحٰى ①

① دن کی روشنی کی قسم ہے

وَاللَّیْلِ إِذَا سَجٰى ②

② اور رات کی جب وہ چھا جائے

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ③

③ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہوا ہے

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاٰوَّلٰى ④

④ اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ⑤

⑤ اور آپ کا رب آپ کو (اتنا) دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ⑥

⑥ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر جگہ دی

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى ⑦

⑦ اور آپ کو (شریعت سے) بے خبر پایا پھر (شریعت کا) راستہ بتایا

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنِي^ط ⑧

اور اس نے آپ کو تنگدست پایا پھر غنی کر دیا ⑧

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ^ط ⑨

پھر یتیم کو دبایا نہ کرو ⑨

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ^ط ⑩

اور سائل کو جھڑکا نہ کرو ⑩

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ^ع ⑪

۱۸ع اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو ⑪

زُكُو عَائِلًا-۱	سُورَةُ الشُّرَحِ (مَكِّي)	آيَاتُهَا-۸
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے		

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ^ل ①

کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا ①

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ^ل ②

اور کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا ②

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ^ل ③

جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی ③

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ④

اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ④

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑤

پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے ⑤

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑥

بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے ⑥

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ⑦

پس جب آپ (تبلیغ احکام سے) فارغ ہوں تو ریاضت کیجئے ⑦

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ⑧

۱۹ اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے ⑧

آيَاتُهَا ۸

سُورَةُ التَّيْنِ (مَكِّي)

رُكُوعُهَا ۱۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالزَّيْتُونَ ①

انجیر اور زیتون کی قسم ہے ①

وَطُورِ سِينِينَ ②

اور طور سینا کی ②

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ③

اور اس شہر (مکہ) کی جو امن والا ہے ③

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ④

بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے ④

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ⑤

پھر ہم نے اسے سب سے نیچے پھینک دیا ہے ⑤

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑥

مگر جو ایمان لائے اور نیک کام کئے سو ان کے لیے تو بے انتہا ⑥
بدلہ ہے

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ⑦

پھر اس کے بعد آپ کو قیامت کے معاملہ میں کون جھٹلا سکتا ہے ⑦

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكَمِينَ ⑧

(کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں (ضرور ہے) ⑧

سُورَةُ الْعَلَقِ (مکی)

آیۃ ۱۹۔

رُكُوْعَاتُهَا ۱۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ①

اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا ①

انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا ②

[کتاب: صحیح البخاری (وحی) # 3, راوی: عائشہ] [البخاری]

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③

پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے ③

[کتاب: صحیح البخاری (وحی) # 3, راوی: عائشہ] [البخاری]

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④

جس نے قلم سے سکھایا ④

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤

انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا ⑤

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ⑥

ہرگز نہیں بے شک آدمی سرکش ہو جاتا ہے ⑥

أَنْ يَّرَاهُ اسْتَعْنَىٰ ⑦

جب کہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے ⑦

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ⑧

بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ⑧

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ⑨

کیا آپ نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے ⑨

عَبْدًا إِذَا صَلَّى ⑩

ایک بندے کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے ⑩

أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ⑪

بھلا دیکھو تو سہی اگر وہ راہ پر ہوتا ⑪

أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ ⑫

یا پرہیز گاری سکھاتا ⑫

أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ⑬

بھلا دیکھو تو سہی اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ⑬

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ⑭

تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ⑭

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَه ⑮ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ⑮

ہرگز ایسا نہیں چاہیے اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر ⑮
گھسیٹیں گے

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ⑯

پیشانی جھوٹی خطا کار ⑯

فَلْيَدْعُ نَارِيَهُ ⑰

پس وہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے ⑰

سَدُّعُ الزَّبَانِيَةِ ⑱

ہم بھی مؤکلین دوزخ کو بلا لیں گے ⑱

السجدة ٢٠ ع ٢٠ كَلَّا لَا تُطَعُّهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ⑲ السجدة ع

ہر گز ایسا نہیں چاہیئے آپ اس کا کہانہ مانیے اور سجدہ کیجیئے اور ⑲

السجدة ٢٠ ع ٢٠ قرب حاصل کیجیئے

رُكُوْعَاتُهَا-١	سُوْرَةُ الْقَدْرِ (مَكِّي)	آيَاتُهَا-٥
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے		

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ① صلح

بے شک ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں اتارا ہے ①

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ② ط

اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے ②

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ٥ ٤ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ③ ط

شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ③

تَنْزِيلُ الْمَلِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ④ ث

اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر ④

کام پر

العلافة ٢١ ع ٢١ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ⑤ ع

وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے ⑤

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ ①

اہل کتاب میں سے کافر اور مشرک لوگ باز آنے والے نہیں تھے ①
یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ②

یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے آئے جو پاک صحیفے پڑھ کر ②
سنائے

فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ③ ط

جن میں درست مضامین لکھے ہوں ③

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ط ④

اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا تو واضح دلیل آنے کے بعد ④

وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ⑤ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ رِیْنُ الْقِيَمَةِ ط ⑤

اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں ایک رخ ⑤
ہو کر خالص اسی کی اطاعت کی نیت سے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ
دیں اور یہی محکم دین ہے

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ⑥

بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے منکر ہوئے اور مشرکین وہ ⑥
دوزخ کی آگ میں ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے یہی لوگ بدترین
مخلوقات ہیں

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ⑦
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے یہی لوگ بہترین ⑦
مخلوقات ہیں

جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ⑧ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ⑧
ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے کے بہشت ہیں ان کے ⑧
نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے
راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے یہ اس کے لئے ہے جو اپنے
رب سے ڈرتا ہے

رُكُوْعَاتُهَا ۱	سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ (مَكِّي)	آيَاتُهَا ۸
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے		

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ①
جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی ①
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ②

اور زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی ②

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③

اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ③

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ④

اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی ④

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤

اس لئے کہ آپ کا رب اس کو حکم دے گا ⑤

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّهُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ⑥ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ⑥

اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال ⑥ دکھائے جائیں

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ⑦

پھر جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا ⑦

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ⑧

ع ۲۳ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا ⑧

رُكُوْعَاتُهَا- ۱	سُوْرَةُ الْعَادِيَاتِ (مَكِّي)	آيَاتُهَا- ۱۱
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے		

وَالْعَدِيَّتِ صَبْحًا ①

ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں ①

فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ②

پھر (پتھر پر) ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں ②

فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ③

پھر صبح کے وقت دھاوا کرتے ہیں ③

فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ④

پھر اس وقت غبار اُڑاتے ہیں ④

فَوَسْطَنَ بِهِ جَمْعًا ⑤

پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں ⑤

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ⑥

بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے ⑥

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ⑦

اور بے شک وہ اس بات پر خود شاہد ہے ⑦

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ⑧

اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے ⑧

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ⑨

پس کیا وہ نہیں جانتا جب اکھاڑا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے ⑨

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ⑩

اور جو دلوں میں ہے وہ ظاہر کیا جائے گا ⑩

ع۲۲ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ⑪

ع۲۲ بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب خبردار ہو گا ⑪

زُكُو عَاتِهَا-۱	سُورَةُ الْقَارِعَةِ (مَكِّي)	اِيَاتِهَا-۱۱
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے		

الْقَارِعَةُ ①

کھڑکھڑانے والی ①

مَا الْقَارِعَةُ ②

وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے ②

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ③

اور آپ کو کیا خبر کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے ③

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ④

جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے ④

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ⑤

اور پہاڑ رنگی ہوئی دھنی ہوئی اُون کی طرح ہوں گے ⑤

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ⑥

تو جس کے اعمال (نیک) تول میں زیادہ ہوں گے ⑥

فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ⑦

تو وہ خاطر خواہ عیش میں ہوگا ⑦

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ⑧

اور جس کے اعمال (نیک) تول میں کم ہوں گے ⑧

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ⑨

تو اس کا ٹھکانا ہاویہ ہوگا ⑨

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ⑩

اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے ⑩

ع۲۵ نَارٌ حَامِيَةٌ ⑪

ع۲۵ وہ دھکتی ہوئی آگ ہے ⑪

آيَاتُهَا ۸

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ (مَكِّي)

رُكُوْعَاتُهَا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

أَلْهِكُمْ التَّكْوِيْنُ ①

تمہیں حرص نے غافل کر دیا ①

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ②

یہاں تک کہ قبریں جا دیکھیں ②

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ③

ایسا نہیں آئندہ تم جان لو گے ③

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ^ط ④

پھر ایسا نہیں چاہیئے آئندہ تم جان لو گے ④

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ^ط ⑤

ایسا نہیں چاہیئے کاش تم یقینی طور پر جانتے ⑤

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ^ل ⑥

البتہ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے ⑥

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ^ل ⑦

پھر تم اسے ضرور بالکل یقینی طور پر دیکھو گے ⑦

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ^ع ⑧

۲۶ع پھر اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا ⑧

آیۃھا-۳

سُوْرَةُ الْعَصْرِ (مکی)

زُكُوْ عَاتِهَا-۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالْعَصْرِ^ل ①

① زمانہ کی قسم ہے

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ^ل ②

② بے شک انسان گھائے میں ہے

ع۲۷ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝ ٥ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ ٦ ۝

مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور حق پر قائم رہنے کی ③
ع۲۷ اور صبر کرنے کی آپس میں وصیت کرتے رہے

سُورَةُ الْهُمَزَةِ (مکی)

آیَاتُهَا ۹۔

رُكُوعَاتُهَا ۱۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ ١ ۝

ہر غیبت کرنے والے طعنہ دینے والے کے لیے ہلاکت ہے ①

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ ٢ ۝

جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے ②

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ ٣ ۝

وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے سدا رکھے گا ③

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ ٤ ۝

ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا ④

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ ٥ ۝

اور آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے ⑤

نَارُ اللَّهِ الْمُوَقَّدَةُ ۝ ٦ ۝

وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے ⑥

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِئَةِ ۝ ٧ ۝

جو دلوں تک جا پہنچتی ہے ⑦

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ⑧

بے شک وہ ان پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی ⑧

ع۲۸ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ⑨

ع۲۸ لمبے لمبے ستونوں میں ⑨

رُكُو عَاتَهَا-۱	سُوْرَةُ الْفِيلِ (مَكِّي)	آيَاتُهَا-۵
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے		

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ①

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ ① کیا

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ②

کیا اس نے ان کی تدبیر کو بے کار نہیں بنا دیا تھا ②

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ③

اور اس نے ان پر غول کے غول پرندے بھیجے ③

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ ④

جہاں پر پتھر کنکر کی قسم کے پھینکتے تھے ④

ع۲۹ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِلٍ ⑤

ع۲۹ پھر انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر ڈالا ⑤

لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ ①

اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا ①

الْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ②

ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے باعث ②

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ③

ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے ③

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ④ وَأَمَّنَّهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ⑤

۳۰۔ جس نے ان کو بھوگ میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا ④

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ①

کیا آپ نے اس کو دیکھا جو روزِ جرا کو جھٹلاتا ہے ①

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ②

پس وہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے ②

وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ③

اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ③

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ④

پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے ④

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ⑤

جو اپنی نماز سے غافل ہیں ⑤

الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ⑥

جو دکھلاوا کرتے ہیں ⑥

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ⑦

ع۳۱ اور برتنے کی چیز تک روکتے ہیں ⑦

زُكُوْ عَاتِهَا- ۱	سُوْرَةُ الْكُوْثِرِ (مَكِّي)	اِيَاتِهَا- ۳
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	
	شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے	

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ①

بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی ①

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ②

پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے ②

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ③

ع۳۲ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے ③

زُكُوْ عَاتِهَا- ۱	سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ (مَكِّي)	اِيَاتِهَا- ۶
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	
	شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے	

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ^١

کہہ دو اے کافرو^①

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ^٢

نہ تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں^②

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ^٣

اور نہ تم ہی میرے معبود کی عبادت کرتے ہو^③

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ^٤

اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا^④

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ^٥

اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے^⑤

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ^٦

تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین^⑥

آیتھا-۳

سُوْرَةُ النَّصْرِ (مدنی)

زُكُوْ عَاتِهَا-۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ^١

جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی^①

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا^٢

اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتے دیکھ ②
لیا

ع۳۳ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ③

تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیئے اور اس سے معافی ③
ع۳۳ مانگیئے بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے

زکوٰۃ غائبا- ۱	سُوْرَةُ لَهَبٍ / الْمَسَدِ (مکی)	ایاتھا- ۵
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ		
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے		

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ①

ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا ①

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ②

اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا ②

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③

وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا ③

وَأْمَرَ أُنْثَىٰ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ④

اور اس کی عورت بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی ④

ع۳۴ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ⑤

ع۳۴ اس کی گردن میں مونسج کی رسی ہے ⑤

زکوٰۃ غائبا- ۱	سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ (مکی)	ایاتھا- ۴
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ		

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ①

① کہہ دو وہ اللہ ایک ہے

اللَّهُ الصَّمَدُ ②

② اللہ بے نیاز ہے

لَمْ يَلِدْ ③ وَلَمْ يُولَدْ ③

③ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ④

④ اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ①

① کہہ دو صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ②

② اس کی مخلوقات کے شر سے

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③

③ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ④

اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے ④

ع۳۷ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤

ع۳۷ اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے ⑤

رُكُو عَاتِمَهَا- ۱	سُوْرَةُ النَّاسِ (مکی)	اِيَاتِمَهَا- ۶
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ		
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے		

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ①

کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا ①

مَلِكِ النَّاسِ ②

لوگوں کے بادشاہ کی ②

إِلٰهِ النَّاسِ ③

لوگوں کے معبود کی ③

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④

اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے ④

الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤

جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے ⑤

ع۳۸ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

ع۳۸ جنوں اور انسانوں میں سے ⑥

